

الكتاب، القرآن ، الفرقان ، البرهان

خالد مہاجر زادہ

الفاتحة

﴿ ایاک نعبد و ایاک نستعین ﴾ 1/50

☆۔ نَعْدُ. (275) (مادہ ع ب د). غلام، اس کے لئے انگلش کا لفظ سرفونٹ بہتر ہے، کیوں کہ ہمارے ذہنوں، جنگی یا اغوا شدہ افراد کا تصور ہے۔ جبکہ ہر وہ شخص جو دوسرے کے لئے کسی بھی قسم کی خدمات، جزوی یا لیکھی (روٹی، کپڑا، مکانیت یا زر کے لئے) دیتا ہے وہ، اُس مدت کے لئے، اُس پر انحصار کرتے ہوئے اُس فرد یا انتظامیہ کی غلامی کرتا ہے۔ بلا معاوضہ خدمات، احسان کہلاتی ہے،

	غلام، ملکیت کیا گیا	عبد + ۱	16/75	1	عبدًا مَمْلُوْكًا.	1
	غلام	عبد + ۱	4/172	5	عبدًا	2
	غلام	عبد	5/60	6	عبد، عبد، عبد، عبد، وَعبد	3
	غلام کے لئے	ل + عبد	2/221	1	لعبد	4
	خاص، غلام	ال + عبد	38/30	3	العبد. والعبد.	5
	ساتھ، خاص، غلام	ب + ال + عبد	2/178	1	بالعبد.	6
	تم غلام ہو	عبد + تم.	109/4	1	عبدتم.	7
	هم غلام ہیں	عبد + نا.	16/35	6	عبدنا. عبدنا. عبدنا.	8
	هم ان کے غلام ہیں	عبد + نا + هم.	43/20	1	عبدناهم.	9
	اُس کا غلام	عبد + ه	19/2	6	عبدہ. عبدہ.	10
	اُس کے غلام کے ساتھ	ب + عبد + ه	17/1	1	بعبدہ. عبدہ.	11
	اس کے دو غلام	عبد + ين.	66/10	1	عبدین.	12
	تو نے غلام بنایا	عبد + ث.	26/22	1	عبدث.	13
	خاص غلاموں کے لئے	ل + ال + عبد.	3/182	5	للعبد.	14

	میں غلام ہوں	أَعْبُدَ	6/56	14	أَعْبُدَ. أَعْبُدُ. وَأَعْبُدُ	15
	پس غلام رہ	فَ+ أَعْبُدِ	39/2	2	فَأَعْبُدُ	16
	پس غلام رہ اُس کا	فَ+أَعْبُدُ+نِي	11/123	2	فَأَعْبُدُهُ	17
	پس-غلام رہ-میرا	فَ+أَعْبُدُ+نِي	20/14	1	فَأَعْبُدُنِي	18
	پس، تم سب غلام بنو۔ میرے	فَ+أَ+ عَبْدُ+ وُنْ	21/25	3	فَأَعْبُدُونْ	19

	تم سب غلام بخیرے	أَعْبُدُونِي + وُن + ئى	36/61	1	أَعْبُدُونِي	20
	پس وہ غلام رہیں	أَعْبُدُوا وَا	2/21	20	أَعْبُدُوا، وَأَعْبُدُوا	21
	پس تم غلام بنو	فَأَعْبُدُوا وَا	2/21	21	فَأَعْبُدُوا	22
	پس وہ سب غلام بنیں، اس کے	فَأَعْبُدُوا وَا ه	3/51	6	فَأَعْبُدُوهُ، وَأَعْبُدُوهُ	23
	تو غلام بنتا ہے	تَعْبُدُ تَعْبِدِ	19/42	2	تَعْبُدُ تَعْبِدِ	24
	تو غلام بنتی ہے	تَعْبُدُ تَعْبِدِ	27/43	1	تَعْبُدُ تَعْبِدِ	25
	تم غلام بنو	تَعْبُدُوا	36/60	7	تَعْبُدُوا	26
	تم سب غلام بنتے ہو؟	تَعْبُدُونَ	2/83	20	تَعْبُدُونَ	27
	کیا تم سب غلام بنتے ہو؟	أَتَعْبُدُونَ	5/76	2	أَتَعْبُدُونَ	28
	پس کیا تم غلام بنتے ہو؟	أَفَتَعْبُدُونَ	21/66	1	أَفَتَعْبُدُونَ	29
	ہم غلام بنیں	نَعْبُدُ	1/5	6	نَعْبُدُ، نَعْبَدُ	30
	ہم غلام بنتے کے لئے	لِنَعْبُدُ	1/4	1	لَنَعْبُدُ	31
	ہم غلام بنتے ہیں ان کے	نَعْبُدُهُمْ	39/3	1	نَعْبُدُهُمْ	32

☆

	وہ غلام بنتا ہے!	يَعْبُدُ	7/70	8	يَعْبُدُ(ن)	33
	وہ غلام بنتے ہیں اُس (مُؤثر) کے	يَعْبُدُونَ	39/17	1	يَعْبُدُونَ	34
	اس لئے وہ غلام بنیں	لِيَعْبُدُوا	98/5	2	لِيَعْبُدُوا	35
	پس اس لئے وہ غلام بنیں	فَلِيَعْبُدُوا	106/3	1	فَلِيَعْبُدُوا	36
	غلام بنتے رہنے کے لئے	لِيَعْبُدُونَ	51/56	1	يَعْبُدُونَ، لِيَعْبُدُونَ	37
	وہ میرے غلام بنتے رہتے ہیں	يَعْبُدُونَ	24/55	1	يَعْبُدُونَ	38
	غلام بنتے رہتے ہیں	يَعْبُدُونَ	43/45	9	يَعْبُدُونَ، وَيَعْبُدُونَ	39
	غلام (جع)	عِبَاد	44/18	14	عِبَاد، عِبَاد، عِبَاد، عِبَاد	40
	غلام (جع)	عِبَاد + ا	3/79	2	عِبَاد، عِبَاداً	41
	غلام (جع)	عِبَاد	37/40	14	عِبَاد، عِبَاد	42
	خاص غلام (جع)	الْعِبَادُ	36/30	2	الْعِبَاد	43
	خاص غلام (جع) کے ساتھ	بِالْعِبَاد	40/44	5	بِالْعِبَاد	44
	خاص غلام کیلئے	لِلْعِبَاد	50/11	2	لِلْعِبَاد	45
	ہمارے غلام	عِبَادَنَا	35/32	12	عِبَادَنَا، لِعِبَادَنَا	46
	اُس کے غلام	عِبَادِه	6/18	25	عِبَادِه	47
	اُس کے غلام کے ساتھ	بِعِبَادِه	17/130	4	بِعِبَادِه	48
	اُس کے غلاموں کے لئے	لِعِبَادِه	42/27	3	لِعِبَادِه	49

	تیرے غلام	عِبَادُكَ	5/118	7	عِبَادَكَ. عِبَادِكَ. عِبَادُكَ.	50
	تمھارے غلام	عِبَادُكُمْ	24/32	1	عِبَادُكُمْ	51

☆

	میرے غلام	عِبَادِی	2/186	12	عِبَادِی	52
	میرے غلام کے ساتھ	بِ+عِبَادِی	20/77	3	بِعِبَادِی	53
	میرے غلام کے لئے	لِ+عِبَادِی	14/31	2	لِعِبَادِی	54
	میری غلامی	عِبَادَتِ+ی	40/60	1	عِبَادَتِی	55
	اُس کی غلامی	عِبَادَتِ+هِ	21/19	3	عِبَادَتِہ	56
	اُس کی غلامی کے ساتھ	بِ+عِبَادَتِ+ةٌ	18/110	1	بِعِبَادَةٍ.	57
	اُن کی غلامی کے ساتھ	بِ+عِبَادَتِ+هُمْ	19/82	2	بِعِبَادَتِهِمْ.	58
	اُس کی غلامی کے لئے	لِ+عِبَادَتِ+وِ	19/65	4	لِعِبَادَتِہ.	59
	تمھاری غلامی	عِبَادَتِ+کُمْ	10/29	1	عِبَادَتِکُمْ.	60
	غلام بنا	عَابِدٌ	109/4	1	عَابِدٌ	61
	غلام بنے	عَابِدُ+وْنَ	3/138	4	عَابِدُونَ.	62
	خاص غلام بنے	عَابِدُ+وْنَ	9/112	1	الْعَابِدُونَ.	63
	واسطے۔ خاص۔ حکم دیئے ہوئے	لِ+الْ+عَابِدُ+وْنَ	21/53	5	عَابِدِيْنَ. الْعَابِدِيْنَ. لِلْعَابِدِيْنَ	64
65	خاص۔ حکم دی ہوئیں	عَابِدَ+اِتٍ	66/5	1	عَابِدَاتٍ	65

☆ - ہم اللہ کی غلامی کیسے کریں؟

روح القدس نے اللہ کی وحی قلبِ الرسول پر کی اور رسول اللہ نے انسانوں پر اس کی قرعت کی جسے ایمان والوں نے اسے محقق کیا گیا کہ انہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيُعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ (18/110) ۝

کہہ بے شک میں تمھاری مثال بثر ہوں! میری طرف وحی ہوئی ہے یقیناً جو تمھارا الہ، الہ و واحد ہے۔ پس جسے اپنے رب سے رجوع ملاقات ہے۔ پس وہ عمل صالح پر عمل کرے۔ اور اپنے رب کی غلامی میں کسی ایک (انسانی رب) کا شرک نہ کرے۔ ۝

نوٹ: اللہ کا حکم اور محقق اللہ کی تلاوت عربی میں ہے۔ تراجم تفسیر و مقدمات سے اللہ یا محقق اللہ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا و بال مترجم، مفسر یا قادم پر ہو گا۔ لہذا اپنے دماغ میں اللہ کے عربی الفاظ حفظ کریں اور حافظوں کی ابتدائی جماعت میں شامل ہو کر اپنے افعال و اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

اعادہ

عَبْدًا . عَبْدًا (مَمْلُوْكًا). عَبَدَ، عَبْدُ، عَبْدٍ . لَعَبْدٌ . الْعَبْدُ. بِالْعَبْدِ. عَبَدْتُمْ. عَبَدْنَا. عَبَدِنَا. عَبَدَنَاهُمْ. عَبَدَهُ. بِعَبَدَهِ. عَبَدِيْنَ. عَبَدَتٍ . لِلْعَبِيدِ.

أَعْبَدُ. أَعْبَدُ. وَأَعْبَدُ. قَاعِبَدٌ. قَاعِبَدَهُ. قَاعِبَدِنِي. قَاعِبَدِنِيْنِ. أَعْبَدُونَ . أَعْبَدُونِي . أَعْبَدُوا . قَاعِبَدُوا . أَعْبَدُوهُ . قَاعِبَدُوهُ . تَعْبُدُ. تَعْبَدٌ . تَعْبَدٌ . تَعْبُدُوا . تَعْبَدُونَ . أَتَعْبَدُونَ . نَعْبَدُ. نَعْبَدٌ . لِعَبَدَ . نَعْبَدَهُمْ .

